

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس
جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی
27 نومبر 2020
پریس ریلیز

جامعہ ٹیچرس ایسوسی ایشن (جے ٹی اے) کے نئے آفس بینر کا انتخاب

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ٹیچرس ایسوسی ایشن نے پروفیسر ماجد جمیل کو صدر ، پروفیسر نفیس احمد کو نائب صدر اور ڈاکٹر محمد عرفان قریشی کو جامعہ ٹیچرس ایسوسی ایشن کا سکریٹری منتخب کیا۔ سبکدوش ہونے والے جے ٹی اے میں پروفیسر ماجد جمیل اور ڈاکٹر محمد عرفان قریشی بالترتیب سکریٹری اور جوائنٹ سکریٹری تھے۔ منتخب ہونے والے جے ٹی اے کے دیگر عہدیداران میں ڈاکٹر صائقہ اکرام کو جوائنٹ سکریٹری اور ڈاکٹر عارف محمد کو بطور خزانچی انتخاب عمل میں آیا ہے۔

ڈاکٹر راجن پٹیل ، ڈاکٹر شیکھا کپور ، ڈاکٹر محسن علی ، ڈاکٹر محمد سلیم ، ڈاکٹر سیمی مرتضیٰ ، ڈاکٹر قاضی محمد عثمان ، ڈاکٹر اشیرف الیان اور ڈاکٹر اقبال علی کو ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔

جامعہ ٹیچرس ایسوسی ایشن (جے ٹی اے) کے لئے کل کوویڈ 19 کے تمام پروٹوکول کی سختی سے پیروی کرتے ہوئے انتخابات ہوئے۔ ووٹرز کا کل 76 فیصد فیصد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا اور ووٹوں کی گنتی دیر شام تک جاری رہی۔ پروفیسر اروندر اے انصاری جے ٹی اے الیکشن 2020 کے ریٹرننگ آفیسر تھے۔

پروفیسر ماجد جمیل پروفیسر ایس اے ایم رضوی کو شکست دے کر صدر کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ پروفیسر نفیس احمد نے نائب صدر کے عہدے کے لئے ڈاکٹر ویرامانی اور پروفیسر مناء اللہ کو شکست دی۔

سیکرٹری کے عہدے کے لئے قریبی مقابلہ میں ڈاکٹر محمد عرفان قریشی نے پروفیسر مشیر احمد کو شکست دی۔

ڈاکٹر صائقہ اکرام نے جوائنٹ سکریٹری کے عہدے کے لئے پروفیسر صبا خان اور ڈاکٹر مکیش میروتھا کو اور ڈاکٹر عارف محمد نے خزانچی کے عہدے کے لئے ڈاکٹر ڈی کے دھسیا کو شکست دی۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر